



## سوال

(80) صلاة وسطی سے مراد نماز عصر ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

صلاة وسطی سے کیا مراد ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صلاة وسطی سے مراد نماز عصر ہے اور یہ صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے دن فرمایا تھا

«شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى» صحیح البخاری باب غزوة الخندق وبنی الاحزاب حدیث: 4111 و صحیح مسلم المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطی ہی صلاة العصر حدیث: 627

”انہوں نے ہمیں صلاة وسطی سے مشغول رکھا۔“

اور بلاشبہ اس سے مراد نماز عصر ہے اور وسطی کے معنی یہ ہیں کہ جو عود کے اعتبار سے درمیان میں ہو اور اس سے مراد اس کی فضیلت ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ](#)

ج 4 ص 77

محدث فتویٰ